



## نئے داخلہ معائنہ کے لیے وقت ملاقات

بچے کا نام: \_\_\_\_\_ تاریخ پیدائش: \_\_\_\_\_  
اسکول: \_\_\_\_\_ گریڈ / کلاس: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_

عزیزی والدین / سرپرست،

تدریس کے لیے اچھی صحت ضروری ہے۔ اسکول کا دفتر صحت خاندانوں کی انکے بچوں کو صحتمند رہنے اور تعلیم کے لیے مستعد ہونے میں مدد کرتا ہے۔ نیویارک شہر عوامی صحت کوڈ (دفعہ 49.05) اور محکمہ تعلیم چانسلر کا ضابطہ (A-701) مطالبہ کرتا ہے کہ پبلک اسکول میں پہلی بار داخل ہونے والے تمام طلبا ایک مکمل طبی معائنہ کروائیں۔ اس معائنے کے نتائج، بچے اور نوبالغ فرد کا صحتی معائنے کا فارم (CH205) پر درج، ہمیں اسکول میں آپکے بچے کی نگہداشت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ فارم لازمی ہے کہ:

- ایک لائسنس یافتہ ڈاکٹر، نرس پریکٹیشنر، یا فزیشن اسسٹنٹ کے ذریعے مکمل کیا جائے
- اسکول کا آغاز کرنے سے 12 مہینوں سے زیادہ پہلے کا مکمل نہ ہوا ہو
- اسکول نرس کو واپس کیا جائے

اگر معائنے کے وقت آپکا بچہ 5 سال سے کم عمر کا ہے، آپکے بچے کی پانچویں سالگرہ کے بعد ایک نیا CH205 فارم جمع کروانا لازمی ہے۔

برائے مہربانی اس تقاضے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس صفحہ کی پشت پر نیا داخلہ معائنے کے اکثر پوچھے جانے والے سوالات ملاحظہ کریں۔

آج کی تاریخ تک، ہمارے پاس آپکے بچے کا مکمل کردہ CH205 فارم فائل پر نہیں ہے۔ براہ کرم اپنے بچے کے طبی نگہداشت فراہم کنندہ سے منسلک فارم مکمل کرنے کے لیے کہیں۔ براہ مہربانی مکمل کردہ فارم اسکول نرس کو \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ تک واپس کر دیں۔ اگر آپکے کوئی سوالات ہیں یا ایک ڈاکٹر یا صحت کا بیمہ منصوبہ تلاش کرنے میں مدد درکار ہے، برائے مہربانی اسکول نرس کو صبح 9 بجے سے سہ پہر 3 بجے کے دوران \_\_\_\_\_ پر فون کریں۔

ہم آپکی اپنے بچے کے طبی نگہداشت فراہم کنندہ سے وقت شیڈول کرنے اور CH205 فارم مکمل کروانے کی پُرزور حوصلہ افزائی کریں گے۔ اگر فارم موصول نہ ہوا، ہمیں آپکے بچے کو اسکول کے دفتر صحت کے فزیشن کے ساتھ ایک معائنے کے لیے شیڈول کرنا درکار ہوگا۔

آپکے تعاون کا شکریہ۔

مخلص،

Cheryl Lawrence, MD

میڈیکل ڈائریکٹر

اسکول کا دفتر صحت

## نیا داخلہ معائنہ: اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQ)

### نیا داخلہ معائنہ کیا ہے؟

نیا داخلہ معائنہ نیویارک شہر کے اسکولوں میں داخل ہونے والے تمام طلباء کے لیے ایک مکمل طبی معائنہ ہے۔ نیویارک شہر عوامی صحت (کوڈ دفعہ 49.05) اور محکمہ تعلیم چانسلر کا ضابطہ (A-701) نئے داخلہ معائنہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ معائنہ لازمی ہے۔

معائنے میں ذیل شامل ہونا چاہئیے:

- باڈی ماس انڈیکس
- بلڈ پریشر
- بصارت کا معائنہ
- سماعتی جانچ
- دانتوں کی جانچ
- میڈیکل ہسٹری
- نشو و نما کی تشخیص
- غذائی تشخیص
- وزن
- قد

### بچے اور نوبالغ فرد کا صحتی معائنے کا فارم (CH205) کیا ہے؟

بچے اور نوبالغ فرد کا صحتی معائنے کا فارم (CH205) ثبوت ہے کہ نیا داخلہ معائنہ انجام دیا گیا تھا۔ یہ فارم لازمی ہے کہ:

- ایک لائسنس یافتہ ڈاکٹر، نرس پریکٹیشنر، یا فزیشن اسسٹنٹ کے ذریعے مکمل کیا جائے
- اسکول کا آغاز کرنے سے 12 مہینوں سے زیادہ پہلے کا مکمل نہ ہوا ہو
- اسکول نرس کو واپس کیا جائے

اگر معائنے کے وقت آپکا بچہ 5 سال سے کم عمر کا ہے، آپکے بچے کی پانچویں سالگرہ کے بعد ایک نیا CH205 فارم جمع کروانا لازمی ہے۔

### میں کیا کرسکتا ہوں اگر میرے بچے کا کوئی طبی نگہداشت فراہم کنندہ نہیں ہے جو CH205 پُر کرسکے؟

نیویارک ریاست میں ہر بچہ طبی بیمہ کووریج اور ایک طبی نگہداشت فراہم کنندہ حاصل کرنے کا اہل ہے۔ اگر آپکے کوئی سوالات ہیں یا ایک فراہم کنندہ یا صحت کا بیمہ منصوبہ تلاش کرنے میں مدد درکار ہے، برائے مہربانی اسکول نرس کو فون کریں۔ اسکول کا دفتر صحت پُرزور تجویز کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے ایک طبی نگہداشت فراہم کنندہ تلاش کریں اور آپکا بچہ ایک سالانہ معائنہ کروائے۔ آپکے بچے کے فراہم کنندہ کو CH205 جدید ترین طبی معائنے کے نتائج سے پُر کرنا چاہئیے۔

اگر اسکول کے دفتر صحت کو ایک مکمل کردہ CH205 فارم نہیں ملتا ہے، آپکے بچے کو اسکول کے دفتر صحت کے فزیشن کے ذریعے طبی معائنے کے لیے شیڈول کیا جاسکتا ہے۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ اسکول کا دفتر صحت ایک بنیادی طبی معائنہ انجام دے گا؛ یہ معائنہ سالانہ چیک اپ کی جگہ نہیں لے سکتا جو آپکے بچے کے طبی نگہداشت فراہم کنندہ کے ذریعے کیا جانا لازمی ہے۔

اگر آپکا بچہ اسکول کے دفتر صحت کے فزیشن کے ذریعے طبی معائنے کے لیے شیڈول ہے:

- معائنہ اسکول کے میڈیکل روم میں کیا جائے گا۔ معائنے کو زیادہ پوشیدہ بنانے کے لیے ایک اسکرین استعمال کی جاسکتی ہے۔
- اسکول نرس یا اسکول کے دفتر صحت کا دیگر عملہ معائنے کے دوران آپکے بچے کے ساتھ ہوگا۔
- معائنے کے لیے، بچے سے اپنے کپڑے اتارنے کے لیے کہا جائے گا، بشمول ٹائٹس، پینٹی ہوز، موزے، تھرمل انڈروئر اور انڈر شرٹ۔ طلباء اپنے انڈرگارمنٹس پہنے رہیں گے، جیسے برا اور انڈرپینٹس، اور معائنے کے لیے ایک گاؤن پہنیں گے۔
- اعضائے تناسل یا "پرائیویٹ پارٹس" کا معائنہ نہیں کیا جائے گا، تاوقتیکہ والدین یا سرپرست معائنے کے وقت موجود ہوں۔
- فزیشن خون نہیں نکالے گا اور نہ ہی مدافعتی ٹیکے لگائے گا۔ معائنے میں آپکے بچے کے طرز عمل اور نشو و نما کی ایک جامع تشخیص شامل نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ یہ خدمات حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کے طبی نگہداشت فراہم کنندہ کے پاس سالانہ معائنے کے لیے جائیں۔

اگر نئے داخلہ معائنہ کے بارے میں آپ کے کوئی سوالات ہیں تو برائے مہربانی اپنی اسکول نرس سے رابطہ کریں۔